

رمضان المبارک فضائل وسائل

تحریر: اشراق احمد بھٹی انگن پوری (ایم۔ اے)

قرآن سے فرضیت روزہ:

﴿بِاِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتُبْ عَلَيْكُم الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ ۱۸۳)

ترجمہ "اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تاکہ تم پر ہیز گار بن سکو۔"

ترتیج: اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی جو باران رحمت اہل ایمان پر برسری ہے اس میں سے ایک بڑا انعام روزہ بھی ہے جو اسلام کے اركان خمسہ میں سے ایک ہے۔ یہ آیت مبارکہ بروز سمواء شعبان المعظم ۲۵ میں نازل ہوئی۔

حدیث سے فرضیت روزہ:

(أَنَّكُمْ رَمَضَانَ شَهْرَ مِبَارَكٍ فَرِضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) (منhadīth bin خبیل)

ترجمہ "تمہارے پاس رمضان المبارک کا بارکت مہینہ آچکا ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔"

چھپلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے:

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے (البقرہ)

ترتیج: اس آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ اگلی سب امتوں پر بھی روزے فرض تھا اور وہ روزے رکھتے تھے۔

۱۔ یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے اور آخری دن کا روزہ ان پر فرض تھا۔ (تورات)

۲۔ حضرت مسیح علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ (انجیل مرقس) (۱۸۔۲)

۳۔ حضرت مسیح نے اپنی امت کو بے ریا اور مخلصانہ روزے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ (انجیل متی ۲۔۷)

۴۔ اہل عرب قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ (منhadīth)

۵۔ (انس ایکلو پیڈیا آف برٹانیکا) میں لکھا ہے کہ روزہ کے اصول و قواعد گوآب و ہواقومیت، تہذیب اور ماحول کے اختلاف کی بنا پر مختلف ہیں لیکن ایسا نہ ہب شاذ و نادر ہی ملے گا جس کے نظام میں روزہ کو تسلیم نہ کیا گیا ہو!

روزہ کی تعریف:

"صیام" لغت عرب میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اجتناب کرنا۔

فضائل و مقاصد رمضان المبارك:

۱۔ پرہیز گاری۔

﴿ لعلکم تتفون ﴾ ترجمہ ”تاکہ تم پرہیز گار بن جاؤ ”۔

روزہ کا مقصد آدمی میں تقویٰ و پرہیز گاری پیدا کرنا ہے۔ نفس کو خصالی بد سے پاک کر کے نیک عادات و اطوار سے مزین کرنا ہے۔ اصل طہارت نفس کی صفائی ہے۔

۲۔ گناہوں سے ڈھال:

(الصيام جنة من النار كجنة أحد كم من القتال) (مند احمد)

ترجمہ ”روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح تمہارے ایک کی ”لڑائی سے بچانیوالی“ ڈھال ہوتی ہے۔ جس طرح ڈھال کا کام تکوار اور تھیار کے اثر سے بچانا ہے بالکل اسی طرح روزے کا کام گناہوں سے بچانا ہے۔“

۳۔ بد نصیب شخص:

حدیث مبارکہ میں ہے ”وَهُوَ بِنَصِيبِ اللَّهِ رَحْمَتٍ سَدِيرٌ هُوَ مِنَ الْمُنْذَنِ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهِ بَحْرَبِهِ وَهُوَ أَنْجَشِشَ نَدِيرٌ“۔ (تغییب و تہییب)

۴۔ نیکی کا ستر گناہ اثواب:

”جو شخص اس ماہ میں کوئی نظری کام کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر اثواب ملتا ہے۔ اور جو فرض ادا کرے اسے اتنا اجر عطا ہوتا ہے جتنا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرنے سے ملتا ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف)

۵۔ گناہوں سے معافی:

”جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔“ (بخاری)

۶۔ جہنم سے ستر سال کی دوری:

”جو شخص اللہ عزوجلی کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے ستر سال دور کر دے گا۔“ (بخاری مسلم)

۷۔ صبر و جزا:

”اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دونگا۔“ (بخاری و مسلم)

آپ ﷺ کا فرمان مبارک ہے۔ ”رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔“

۸۔ دوائے صحت:

نبی اکرمؐ نے فرمایا ”روزے رکھا کر و صحبت یا بہوجاؤ گے۔“

۹۔ قبولیت دعا:

تین آدمیوں کی دعائیں کی جاتی۔ (۱) روزہ دار جب افطاری کرے۔ (۲) امام عادل (۳) مظلوم

روزہ دار کو دخوشیاں:

ام الابناء حنفیٰ محدث مسلم بن حنفیٰ روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الإفطار فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الإفطار أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إذ شئتم».

۱۰۔ قیامت کے دن سفارش:

(الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيمة يقول الصوم رب منعه الطعام والشراب

بالنهار ويقول القرآن منعه اللوم بالليل شفعنا فيه. (مسند حمود وسنن نسائي)

ترجمہ ”روزہ اور قرآن بندے کیلئے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرمًا۔“

۱۱۔ فراغی رزق:

آپ ﷺ کا فرمان مبارک ہے۔ ”یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھادیا جاتا ہے۔“

۱۲۔ جہنم کے دروازے بند ہونا اور شیاطین کا جکڑ اجانا:

”رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔“ (بخاری)

۱۳۔ روزہ افطار کروانے کا ثواب:

”جو شخص روزہ دار کار روزہ افطار کرائے تو اس کو اسکے برابر ثواب ملے گا۔“

۱۴۔ تیزی شہوت کو ختم کرنے والا نسخہ:

آپ ﷺ نے فرمایا ”بُوئَّا حَكْمَةٌ لِّلَّهِ الْعَلِيِّ لِمَنْ يَرَى“ کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزہ شہوت کی تیزی کو ختم کرنے والا ہے۔ (بخاری)

۱۶۔ قیام رمضان:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ”جو شخص ایمان کیسا تھا اور طلب ثواب کیلئے رمضان کا قیام کرتا ہے۔ اس کے سابقہ گناہ خش دیے جائیں گے۔“ (بخاری)

۱۷۔ تلاوت قرآن حکیم:

”رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔“ (بخاری)

۱۸۔ صدقہ خیرات:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ ”رمضان کی خیرات افضل خیرات ہے۔“

۱۹۔ لیلۃ القدر:

یہ وہی مبارک رات ہے جس رات قرآن مجید لوح محفوظ آسمان سے دنیا پر نازل ہوا۔ جس رات کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ﴿لِلَّهِ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (القرآن) ”لیلۃ القدر ہر اربعینوں سے بہتر ہے۔“

تشریح: یعنی اس اکیلی رات کا قیام ۸۳ سال ۲ ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں حضرت جبراہیل لاتعداد فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ذکر الہی کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور ذکر الہی کرنے والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ لیلۃ القدر ستائیں سویں رات ہے۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ اس رات کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو عاجزی کے ساتھ“۔ (بخاری و مسلم)

مسائل رمضان المبارک:

۱۔ رویت ہلال:

”رمضان المبارک کے چاند کیلئے ایک اور عید کے چاند کیلئے دو مسلمان قبیع شریعت کی شہادت ہونی چاہیے۔“ (ابوداؤر)

۲۔ رویت ہلال کی دعا:

(اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالاسْلَامِ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ) (ترمذی)

۳۔

روزہ کی نیت:

اگر روزہ فرض ہو تو صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له) (ترمذی) ”جورات کو روزے کی نیت نہ کرے۔ اس کا روزہ نہیں“۔ (نوٹ) اکثر لوگ جو روزہ رکھنے کی نیت ”بصوم غد نوبت“ پڑھتے ہیں۔ بدعت ہے۔ اس کا شریعت محدث یہ میں کوئی ثبوت نہیں۔ نیت درحقیقت دل کا فعل ہے زبان کا فعل نہیں۔

۴۔

اظمار کی دعا:

(۱) (ذهب الظما و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله) (ابوداؤد)

ترجمہ: ”پیاس رفع ہو گئی اور گیس تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزہ کا اجر و ثواب ثابت ہو چکا“

(۲) (اللهم لک صمت و علی رزقك افطرت) (مشکوہ)

ترجمہ: ”اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے اظمار کیا“۔

۵۔

سحری کا کھانا سنت مولکہ ہے:

آپ ﷺ کا فرمان ہے ”ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزہ میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے“ (مسلم)
دوسرافرمان ”سحری کھاؤ اسلئے کہ سحری میں بڑی برکت ہے“۔ (بخاری و مسلم)

۶۔

سحری دیر سے اور اظماری جلدی کرنا:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ ”میری امت اس وقت تک بھلانی میں رہے گی جب تک وہ اظمار جلدی اور سحری مؤخر کرے“۔ (منڈاحمد)

۷۔

روزہ کن چیزوں سے اظمار کرنا سنت ہے:

”روزہ کھجور سے اظمار کرنا چاہیے۔ ورنہ پانی سے بھی اظمار کرنا سنت ہے“۔ (ابوداؤد ، ترمذی)

۸۔

روزہ نہ توڑنے والی چیزیں:

(۱) مساوک کرنا (۲) خوشبوگانا (۳) آنکھوں میں سرمه یا دوائی ڈالنا (۴) سریابدن پر تیل لگانا
(۵) احتلام ہوجانا (۶) خود بخود قے آجائنا (۷) روزہ رکھ کر ضروری عسل کرنا (۸) با مر جبوری ہٹنڈیا کا نمک پچھ کر فوراً تھوک دینا (۹) تاک میں بغیر مبالغہ پانی ڈالنا (۱۰) بلا مبالغہ کلکی کرنا (۱۱) لعاب کا اندر ہی

اندر پیٹ میں چلے جانا (۱۲) مسوڑے کے خون کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا (۱۳) کان میں دوائی ڈالنا (۱۴) بیوی کا بوسہ لیما بشرطیہ قابو پر قدرت ہو (۱۵) گرد و غبار کا اندر چلے جانا (۱۶) لکڑی یا گاڑیوں کے دھوئیں کا اندر چلے جانا (۱۷) غلطی یا بھول سے کھاپی لینا۔

۹۔ روزہ توڑنے والی چیزیں:

(۱) دانتہ کھانا پینا (۲) جماع کرنا (۳) قصد آتے کرنا (۴) تمبا کو پینا (۵) مبالغہ کے ساتھ پانی حلق یا ناک میں چڑھانا (۶) کسی نالی کے ذریعہ جسم میں خوراک پہنچانا (۷) عورت کو حیض یا نفاس کا خون آنا (۸) بیکہ جس سے جسمانی قوت حاصل ہو (۹) بوسہ یا اکھٹے سونے کی وجہ سے منی کا اخراج (۱۰) اسلام سے ارتاد

۱۰۔ مریض اور مسافر:

”مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مگر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی قضا دینا ہوگی۔“ (البقرہ)

۱۱۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت:

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے بچ کو نقصان پہنچ گا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ ہاں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے اور ممکن ہو تو بعد میں قضا بھی دے۔ (تفصیر ابن کثیر)

۱۲۔ کفارہ:

کفارہ اس لئے ہوتا ہے کہ شریعت کو بازیچہ اطفال ہونے سے بچایا جائے اور اس کی حرمت کا تحفظ کیا جائے۔ ”بلاءذر شرعی روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل دو ماہ کے روزے کے اگر بھی طاقت نہ ہو تو بیک وقت ساٹھ مسائیں کو کھانا کھلانے۔“ (ترمذی)

۱۳۔ فدیہ:

دائی مریض یا بہت بوڑھا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ وہ روزے کے بدے ایک مسکین کو منج دشام کھانا کھلانے۔ (تفصیر ابن کثیر)

۱۴۔ ایام حیض:

”حضرت عائشہ صدیقہؓؒ ماتی ہیں حضورؐ کے زمانہ میں ہم حیض کی حالت میں ہوتیں تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم

دیتے۔ مگر نماز کی قضا کا حکم نہ دیتے۔“ (بخاری)

فلسفہ صیام:

روزہ کے روحانی، اجتماعی اور طبی بہت سے فوائد ہیں۔ جسمیں سے بعض درج ذیل ہیں۔

۱۔ یا پہنچنے آپ پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ (۲) صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے۔ (۳) ایثار و قربانی سکھاتا ہے۔

۴۔ اس سے ایک دوسرے پر احسان کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ (۵) روزہ ایک طرح نظامِ خصم پر ایک ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے۔ (۶) درحقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص معدہ و جگہ پر ہوتا ہے۔

۷۔ روزہ کے دوران انتریوں اور دیگر نظامِ خصم کے اجزاء کو آرام کی وجہ سے نئی تازگی اور تو انائی حاصل ہوتی ہے۔

۸۔ اس طرح روزہ داران تمام بیماریوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو نظامِ خصم کے اجزاء پر ہو سکتے ہیں۔

روزہ غیر مسلم اسکا لرز کی نظر میں:

(۱) سگمنڈ زرایہ: میشہور سایکالوجسٹ ہیں۔ اس کا کہنا ہے روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمه ہو جاتا ہے۔

(۲) ارسطو: یونان کے عظیم دانا اور حکیم تھے اس نے فاقہ اور پھر مسلسل فاقہ کو جسم کی تو انائی کیلئے ضروری قرار دیا ہے۔

(۳) سکندر اعظم: عظیم فاتح اور یونانی حکمران تھے اس کا کہنا ہے ”میری زندگی مسلسل تجربات اور حادث میں گزری ہے جو آدمی صبح اور شام کھانے پر اکتفا کرتا ہے وہی ایسی زندگی گزار سکتا ہے جس میں کسی قسم کی پچ نہ ہو“

(۴) چاکریہ: چندر گیت موریا کا شاطر و زیر چاکرید جس کی مشہور کتاب ”ارتح شاستر“ جو سیاسی حکمت عملی اور جہاں بانی پر ایک جامع تلخیص ہے۔ (321 قبل مسیح) وہ لکھتا ہے ”میں نے بھوکارہ کر جینا سیکھا اور بھوکارہ کر اڑنا سیکھا ہے۔ میں نے دشمنوں کی دو تدبیریوں کو بھوکے پیٹھ لایا ہے۔“

(۵) پروفیسر مور پالڈ: موصوف آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہچان ہیں۔ کہتے ہیں ”اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روزے کا اتنا عظیم فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام مسلمانوں کو اور کچھ نہ دیتا صرف یہی روزے کا فارمولہ ہی دیتا۔ تو پھر بھی اس سے

بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ میں عرصہ دراز سے ورم معدہ میں بدلتا تھا۔ مسلمانوں کی طرح روزے رکھنے کا تجربہ کیا کچھ ہی دنوں بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا میرا یہ عارضہ جاتا رہا۔ (ماہنامہ ”نئی دنیا“)